

## رمضان: گناہوں کی تلافی کا مہینہ

ڈاکٹر سمیر یونس / ترجمہ: ارشاد الرحمن

ماہ رمضان ایک معزز مہمان ہے۔ کیا ہی اچھا مہمان ہے! یہ معزز مہمان بھی ہے اور محترم و مکرم ملاقاتی بھی۔ جو ایک سال کے طویل وقٹے کے بعد ہمارے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ یہ ایک شوق عظیم ہے جس کی طرف دل لپکتے ہیں۔ گناہ گاراں کے منتظر رہتے ہیں تاکہ اس کے باہر کت لمحات میں گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ عبادت گزار اور طاعت شعار لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اپنی عبادت و اطاعت میں اضافہ کر سکیں۔ اس ماہ مبارک میں ۔۔۔ دن کو صائم، رات کو قیام، شب و روز کے اوقات میں اعمال صالحات، آلوہ نفوس کا تزریق، زنگ آلوہ قلوب کا تصفیہ، شرج صدر اور اصلاح احوال، رحمت رب کا حصول، مغفرت رب کا نزول، جہنم سے آزادی، آتشِ دوزخ سے نجات، رب کی خوشنودی و رضامندی اور اعمال صالح کی قبولیت و مطلوبیت کے قابلِ رئٹک لمحات امت مسلمہ کو سال بھر کے وقٹے سے میسر آ جانا رب کی بے پایاں رحمت کا کرشمہ ہے!

یہ سنہری لمحات ہر صاحب ایمان کے لیے اپنی محرومیوں کو دور کرنے، کیوں کو پورا کرنے، رب سے اول گانے، شیطان سے جان چھڑانے اور کامیاب کلمہ گو بننے اور کھلانے کا عظیم اور بے نظیر موقع ہے۔ اس عظیم فرست کو اپنے لیے غنیمت کا موقع بنانا ہر مسلمان کے اپنے اختیار میں ہے۔ مومن کو اس مہینے میں اپنے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے احباب و اقارب، اور محلہ و بستی کے ساتھ، اپنی قوم و ملت کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر اپنے خالق و مالک کے ساتھ اخلاص و خلوص، وفاداری و فاشعاری اور نصیحت و خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا ناگزیر ہے۔ اس ماہ عظیم کو دیگر مہینوں کے معمولات کی طرح گزار دینا بہت بڑی اور ناقابل تلافی محرومی ہے۔ معلوم نہیں یہ

اوقاتِ مبارک، یہ لمحاتِ باہر کرت، یہ نیکیوں کا موسم بہار، یہ رب کی عطاوں، عنایتوں، مہربانیوں، بخشنوش اور نعمتوں، ثروتوں کا بے مثل مہینہ اگلے برس کے نصیب ہوتا ہے! الہذا مومنانہ فراست کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہِ عظیم کو اپنی زندگی سنوارنے اور کامیاب و کامران بنانے کا آخری موقع تصور کیا جائے۔

### خالص اور مضبوط عزم و ارادہ

نیتِ خالص اور درست کر لی جائے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے اچھے اور نیک کام بھی حسنِ نیت سے اجر کے انتبار سے پہاڑ بن جاتے ہیں مگر پہاڑ جیسے اچھے کام نیت کی خرابی سے رائیگاں چلے جاتے ہیں۔ وقت کا ضیاع اس مہینے میں مومن کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب ہے اور اس کا درست اور بھرپور استعمالِ اعظمیم اور فلاح کبیر کا ضامن ہے۔ بہت سی حلال، مباح اور جائز مصروفیات میں وقت گزاری کے بجائے نگاہِ ارجف اور اعلیٰ اعمالِ صالح پر رکھی جائے۔

یہ موقعِ خوش نہما لباس خریدنے، بنانے اور افطاری میں انواع و اقسام کے دستروں ان سجانے کا نہیں۔ یہ سامانِ افطاری کی مہنگے نرخوں پر فراہمی کے ذریعے چند روپے کمالینے کو غنیمت سمجھنے کا موقع نہیں۔ یا اپنی قسمت بدلتے، رجحانات کو تبدیل کرنے، روشنِ زندگی کو با مقصد بنانے، دنیوی امتحان گاہ میں شرکت کے موقع کو آخري سمجھ کر کامیابی کے لیے پورا زور صرف کرنے کا موقع ہے۔ خطرات و خدشات میں گھرے اس موقع سے بحفاظت وسلامتی باہر نکلنے کے لیے بھرپور قسم کی منصوبہ بندی چاہیے۔ ایسی منصوبہ بندی ماہِ رمضان کے ۳۰ روز و شب تک محدود نہ ہو بلکہ زندگی کے لیے نفس و کردار کی دائمی تبدیلی کا مستقل عنوان بن جائے۔

### هدف کا تعین اور اس کے لیے جدوجہد

رمضان کے مقاصد و مطالب کے حصول کے لیے رمضان میں ذاتی معمول بنالینا مفید ہوتا ہے۔ منتشر امور و معاملات کو سمیٹنا اور مجتمع کرنا لمحاتِ سعادت سے حقیقی طور پر مستفید ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ زندگی بھر انسان ترقی و کامیابی کے بے شمار خواب دیکھتا اور ان کی تعبیر پانے میں کوشش رہتا ہے۔ صاحبِ فراستِ مومن کے لیے لازمی ہے کہ وہ بھی ایک خواب دیکھے، سہانا خواب، کامیابی و کامرانی کا خواب، ترقی و خوش حالی کا خواب۔ یعنی جنت کا خواب! ہم بہت سی

عبادات، اعمالی طاعات اور کارہائے صالحات انجام دیے جا رہے ہوتے ہیں مگر پیش نظر کوئی مقصد اور نصب لعین نہیں ہوتا، کوئی ہدف اور منزل نہیں ہوتی۔ اگر کسی بڑے خواب کی تعبیر پانے کی غرض سے یہ جدوجہد کی جائے تو وہ خواب جنت ہی ہو سکتی ہے۔ حصول جنت سے بڑھ کر منزل کیا ہو سکتی ہے۔ رب کی خوشنودی سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ قرب خداوندی سے بڑا مرتبہ کیا ہو سکتا ہے، جنت کے خواب سے اعلیٰ اور برتر خواب کیا ہو سکتا ہے۔ جنت کا حصول، رب کی رضا جوئی سے ممکن ہے اور رب کی رضا کا حصول سن اوار جنت ہونے کا نام ہے۔ کاش! ہم دنیاوی زندگی کے چھوٹے چھوٹے خوابوں سے نکل کر حصولِ جنت اور خوشنودی رب کا عظیم خواب دیکھیں۔ پھر اس کی تعبیر کو ممکن بنانے کے لیے مصروف عمل ہو جائیں۔ تمام چھوٹے اور عارضی اساس رکھنے والے خوابوں پر اسی عظیم اور دامغی خواب کو ترجیح اور اولیت دیں تاکہ اپنی منزل اور ہدف کو پالیں۔

### محرومیوں کا ازالہ بھرپور جذبے کے ساتھ

خسارے کی صورت حال سے دوچار کاروبار سے نکلنے کے لیے جہاں چند نئے امور ناگزیر اور لازمی ہوتے ہیں وہیں ماضی کی کوتا ہیوں سے نہ صرف دستکش ہونا ضروری ہوتا ہے، بلکہ ان کوتا ہیوں سے پیدا ہونے والی محرومیوں کا ازالہ کرنا بھی ناگزیر یہی تھا ہے۔ رمضان مومن و مسلم کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی کوتا ہیوں اور محرومیوں کا ازالہ بھرپور طریقے سے کر سکے۔ اس نئی زندگی کی کامیابی کا انحصار ماضی کی تلافی مافات پر ہے۔ لہذا انسانی معاشرے کے بشری معاملات میں خطاؤں، لغزشوں اور کمیوں کوتا ہیوں کو اپنے اعمال نامے کے بد نمایا غم کے طور پر تکوں کیے رکھنا، یا اُن پر کسی بے چینی اور اضطراب کا احساس نہ ہونا زندہ دل اور زندہ ضمیر کی علامت نہیں۔ یہ موقع ہے کہ دلوں کے بند درپیچوں کو واکریا جائے۔ اپنے اور دوسروں کے درمیان بند روازوں کو کھول دیا جائے۔ دوسروں کے بارے میں اپنے دل کو صاف و شفاف کریا جائے۔ اُن کے لیے دل میں محبت و مودت اور خیر و فلاح کے جذبات پیدا کیے جائیں۔ غفوو و درگزار اور رواداری و برداشت اور تحمل و تسامح کا روایہ اپنالیا جائے۔ اس عمل کی انجام دہی کے دوران قرآن کی یہ آیت ہمیشہ منظر ہے:

وَ سَارُوكُمَا بِالْدَّمَغْفِرَةِ وَ دَيْكُمْ وَ جَنَّةَ مَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ  
أَعِمَّتْ لِلْمُتَقْيِّيِّوْنَ الْمَنْيُّوْنُ يُنْفَقُوْنَ فِي السَّرَّاءِ وَ الْخَرَّاءِ وَ الْمَكْلِمِيَّوْنَ

**الْغَيْظَ وَ الْعَافِفِيَّ عَوِ النَّاسِ طَ وَ اللَّهُ يُتَبَّعُ الْمُسْنِيَّ** ۰ (ال عمرن ۳: ۳۲-۳۳) دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے ماں خرچ کرتے ہیں خواہ بدحال ہوں یا خوش حال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔

### قلب و نظر اور کردار و عمل کی صفائی

رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رب سے اُس کی رحمت کا سوال کیا جائے۔ اللہ اپنے خود اس رحمت کو دوسروں کے لیے عام کیا جائے۔ کیوں کہ جو انسانوں پر رحیم نہیں ہوگا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ رب کے دریافت پر دستک دینے سے قبل اپنی نرمی و ملائکت اور رحم دل کے دروازے پر دستک دی جائے۔ دُور و نزدیک، عزیز و عالمی ہر کسی کے ساتھ رحم کا معاملہ روا کھا جائے۔ صلد ہجی کر کے اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔ خیر اور بھلائی صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کا حق دار سمجھا جائے۔ حسد و بعض اور کینہ و کدورت کو دلوں سے نکال باہر کیا جائے۔ دل کے اندر جو بھی سیاہی موجود ہے اس کو ایمان کے پانی سے دھوڈا لاجائے۔ اس میں تاریکی طاری رکھنے کے بجائے اُسے روشن اور چمک دار بنادیا جائے اور اسے بلند و برتر اور اعلیٰ وارفع خیالات کی آماج گاہ بنایا جائے۔ اسے قلب سلیم کا مطلوب اور قابلِ رشک روپ دے لیا جائے۔ وہ قلب جو قیامت کے دن اہل دل کو نفع دے گا۔

رمضان میں رب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ خود اپنے نفس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کیا جائے۔ اپنے غمتوں اور پریشانیوں، مصروفیتوں اور مشغولیتوں سے توکل علی اللہ کے سہارے باہر نکل آئیے۔ کیوں کہ وہی واحد ذات ہے جو کاشف الغم اور مفرج الہم ہے۔ جو اُس پر توکل کرے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ انسان کو از خود اپنے اوپر عائد کردہ پابندیوں اور از خود پہنی ہوئی بیڑیوں سے خود کو آزاد کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو الم و حزن کی قید سے چھڑا لینا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی چاہیے۔ یہ حسیب کبیر اصلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع

ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے:

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُوْنِ وَالْأَذْرَافِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَذَابِ وَالْكَسْلِ،  
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَطْرِ وَالْبَذْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الْجِنِّ وَقَهْرِ الرِّبَالِ  
اَللّٰهُمَّ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر و غم سے اور تیری پناہ چاہتا ہوں ناتوانی و سُستی  
سے اور بچاؤ چاہتا ہوں تیرے ذریعے بخشن اور بزدیلی سے اور تیری پناہ میں آتا ہوں  
قرض کے غلے اور لوگوں کے سخت دماو سے۔

عفو و درگزراپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی

اصلاح حال اور تزکیہ نفس کا عمل اُس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان دوسروں کو ایذاز ارسانی کی ذہنیت سے کامل طور پر درست بردار نہ ہو جائے، لہذا کسی انسان کو تکلیف دینے، ایذا پہنچانے، اُس کا حق مارنے، اُس پر ظلم کرنے اور زیادتی کرنے کا تو ایک مومن سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی حُسن سلوک اور عفو و درگزر کی تعلیم ہے جو انسان کو دکھ دے چکے ہوں، اُس کا حق کھا چکے ہوں، اُس پر ظلم ڈھا چکے ہوں۔ مومن ان کے غلط اعمال کو اپنے نیک اعمال کے لیے رکاوٹ نہیں بننے دیتا۔ مومن کارویہ احسان ان کے لیے بھی عام ہوتا ہے جو اُس کی جان کے دشمن ہوں۔ ماہ رمضان موقع ہے ایسے لوگوں کے دلوں میں اُتر جانے کا، ان کے نظریہ زندگی کو پدل ڈالنے کا، اپنی پارسائی اور فطری شرافت کو ان پر واضح کرنے کا، ان کا دل پدل ڈالنے اور روشن زندگی کا رُخ موڑ دینے کا!

دول میں کدروں، حسد اور بعض پیدا کرنے کا سب سے بڑا سب غیبت اور چغلی ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ مغلولوں اور مجلسوں کا مرغوب پھل بن گیا ہے۔ لوگ اپنی نشست و برخاست اور میل ملاقاتوں کے موقع پر یہ پھل کھائے بغیر رہ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یقیناً معلوم رہنا چاہیے کہ:

يَأَيُّهَا الْمُبْرِيرَاتُ لَا يَجْتَنِبُونَا كَثِيرًا مَّا الظُّلُمُ إِذْ بَعْضُ الظُّلُمُ يَا مُشَّدِّدٌ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لَا يَبْسُطُونَا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا طَائِدٌ أَنْهُمْ كُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَهُمْ أَخْذِيهِ مِنْنَا فَكَمْ هَقْتُمُهُ طَوَّافُوا اللَّهُ طَارِئُ اللَّهِ تَوَابٌ وَجِيمٌ<sup>٥</sup> (الحجرات ١٢:٣٩) اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پر ہیز کرو کہ بعض گمان گناہ

ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمھارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو، تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور حیم ہے۔ غیبت سے پچنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم روزہ تو حلال رزق کھا کر رکھیں مگر افظار غیبت جیسی حرام چیز سے کر لیں۔

رمضان جہاں دوسروں کو معاف کر دینے، درگزر سے کام لینے اور عقوتو سماج اختیار کرنے کا بہترین موقع ہے وہیں دوسروں سے اپنی کوتا ہیوں اور خطاؤں کی معافی مانگ لینے کا بھی سنہری موقع ہے۔ اپنے بُرے اعمال کا اعتراض اور ان پر رب اور رب کے بندوں سے اعتذار کر لینا مومن کے ان اوصاف میں سے عظیم و صاف ہے جنہیں قرآن نے بیان کیا ہے۔ یہ موقع ہے کہ قیامت کے روز دنیا کے ظلم کو ظلمات بننے سے روک لیا جائے۔ اپنی نیکیوں کو دوسروں کے نامہ اعمال کی زینت بننے اور ان کے ترازوں کا وزن بننے کے بجائے اپنے ہی ترازوں کے لیے محفوظ رکھا جائے۔ دوسروں کے گناہوں کو اپنے نامہ اعمال کا ثقل مزید بننے نہ دیا جائے۔ لہذا موقع ضائع کیے بغیر متاثرین سے معافی مانگی جائے۔ زبانی کلامی اور تحریری و قلمی جس طریقے سے بھی ممکن ہو ان سے اپنے قصور کی بخشش کا سوال کیا جائے۔ دوسروں سے انسان کا اعتراض حق تلفی اس کی اپنی عظمت و فضیلت اور دوسروں کے لیے درس حکمت ہے۔ ان کے دل اس عمل سے شاداں و فرحاں ہو جائیں گے اور معافی کا خواستگار ان کی آنکھوں میں بہت بڑا بہادر اور انصاف پسند ٹھہرے گا۔ حق تلفی کے مجرم کو فوراً ان سے معذرت کر لینا نہایت ضروری ہے، خصوصاً ان لوگوں سے اپنے ظلم و نا انصافی کی معافی لینا اشد ضروری ہے جن کے اُپر کیے گئے ظلم و ستم اور حق تلفی نے انسان کی نیند اڑا کر کھدی ہو۔ راتوں کا چھین غارت کر دیا ہو، ہر کروٹ کے ساتھ یہ احساس بیدار رہتا ہو، رات آنکھوں میں گزر جاتی ہو، رات بھر خشمہ ملامت کرتا اور چھنچھوڑتا رہتا ہو کہ اے انسان تو نے ان مظلوموں کے ساتھ کیا تھا؟ رمضان ماضی کے غم میں مبتلا رہنے اور ماضی کی ناکامیوں کے احساس میں اپنے آپ کو گھلانے کے بجائے مستقبل پر نظر رکھنے اور اُس کی تیاری اور منصوبہ بندی کرنے کا سبق دیتا ہے۔ بہت اور حوصلے کو چار نہیں دس چاند لگا دیتا ہے۔ ناکامی کی جگہ کامرانی کا احساس پیدا اور نمایاں کرتا

ہے۔ دل و ضمیر کو اُمید و رجاء سے بھرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حسرت و ندامت کے بجائے عزم و بہت اور ارادہ و نیت کو عمل میں لانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ظالموں اور حق تلف کرنے والوں کو چھوڑ دینے، نظر انداز کرنے، اور ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کا وقت ہے۔ اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے تو جان رکھو کہ اللہ حاکمِ عدل ہے وہ ایک روز ان کے ظلم و ستم کا حساب لے کر رہے گا۔

### ذاتی جائزہ و احتساب

رمضان وہ فرستہ اور موقع ہے جس میں بُرائی سے دُوری اور بھلانی سے دُقتی میں نجات ہے۔ ہر مومن کو قرآن مجید کی ان دو آیتوں کی روشنی میں اپنا روزانہ جائزہ لینا ضروری ہے۔

يَا أَيُّهَا الْمُبِينُ إِنَّمَا إِذَا كَفَرُوا أَنْ يُبَطِّلُوا مَا أَنْبَثُوا وَ إِنْفَثُوا وَ إِنْكَثُوا وَ إِنْلَفَثُوا  
 لَعَلَّكُمْ تُنَافِرُ ○ وَ بِالْأَقْرَبِ مَا فِي أَرْضِهِمْ ○ وَ إِنَّمَا يُبَطِّلُ مَا بَعَدَ  
 عَلَيْكُمْ فِدَ الْقِبْلَةِ وَ مِنْ تَرَيْنِ طَرَفَةَ أَبْيَنِكُمْ طَرَفَةَ سَمْكِكُمْ  
 الْمُسْلِمِينَ وَ مِنْ قَبْلِهِ وَ فِي هَذَا لِيَكُورُ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ  
 تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى الْفَلَمِيمِ الْحَلَوَةِ وَ أُتُوا الرَّكْوَةَ امْتَنَعُوا  
 بِاللَّهِ طَرَفَةَ مَوْلَكُمْ فَنَفَعَ الْمَوْلَدُ وَ بَغْمَ النَّبِيُّ ○ (الحج: ۲۲، ۷۷)

اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بنگی کرو، اور نیک کام کرو، اسی سے توقع کی جاسکتی ہے کہ تم کوفلاح نصیب ہو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اُس نے تھیں اپنے کام کے لیے پُجن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تیگنی نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملٹ پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمھارا نام مسلم کھا تھا۔ اور اس (قرآن) میں بھی (تمھارا بھی نام ہے)۔ تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمھارا مولیٰ، بہت ہی اچھا ہے وہ مولیٰ اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔

(المجمعت: عدد ۱۱، ۱۳۰۲)